



6	וַיִּדְבֹר	מֹשֶׁה	אֵל-	בְּנֵי יִשְׂרָאֵל	וַיִּתְּנוּ וְאֶלָיו	כָּל-	נְשִׂאֵיהֶם	מֹשֶׁה
	اور-بولا	موسیٰ نے	سے	بیتوں کے	اور دیے	تمام	ان کے-سرداروں نے	چھڑی
	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4294</a>

	لְנִשְׂיָא	אֶחָד	מֹשֶׁה	לְנִשְׂיָא	אֶחָד	אֶבְתָּם	שְׁנַיִם	עֶשְׂר	מִטּוֹת	וּמִטָּה
	سردار کے لیے	ایک	چھڑی	سردار کے لیے	ایک	ان کے-باپوں	دو	دس	چھڑیاں	اور-چھڑی
	<a href="#">H3240</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H4294</a>

אֶחָד וְאֶחָד: מִטּוֹתָם:  
 بارون کی درمیان ان کی-چھڑیوں کے  
[H0175](#) [H8432](#) [H4294](#)

تھی۔ شامل بھی لائھی کی بارون میں لائھیوں 12 ان دی۔ لائھی اپنی اُسے نے سردار ہر کے قبیلوں اور کی، بات سے اسرائیلیوں نے موسیٰ چنانچہ

7	וַיִּנָּח	מֹשֶׁה	אֶת-	הַמִּטּוֹת	לְפָנָי	יְהוָה	בְּאֶהָל	הָעֵדוּת:
	اور-رکھا	موسیٰ نے	کو	چھڑیوں	سامنے	یہوواہ کے	خیمے-میں	شہادت کے
	<a href="#">H3240</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H5715</a>

رکھا۔ سامنے کے صندوق کے عہد میں خیمے کے ملاقات انہیں نے موسیٰ

8	וַיְהִי	מִמִּנְחָתָת	וַיָּבֵא	מֹשֶׁה	אֵל-	אֶהָל	הָעֵדוּת	וְהִנְה	פָּרַח	מִטָּה-	אֶהָרֹן
	اور-ہوا	اگلے-دن	اور-آیا	موسیٰ	میں	خیمے	شہادت کے	اور-دیکھو	بھولی	چھڑی	بارون کی
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4283</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H5715</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H0175</a>	

لְבַיִת לְגֵהֶר-כֶּלֶי לָאוּי-כֶּלֶי: וַיִּצָּא פָּרַח וַיִּצָּא  
 گھر کے لیے لای کی اور نکلی اور نکلا اور پھول اور پکے بادام  
[H8247](#) [H1580](#) [H6525](#) [H3318](#) [H3878](#)

بلکہ میں نکلی پھوٹ کونہیں صرف نہ سے لائھی کی بارون سردار کے قبیلے کے لای کی دیکھا نے اُس تو ہوا داخل میں خیمے کے ملاقات وہ جب دن اگلے  
 ہیں۔ لگے بھی بادام ہوئے پکے اور پھول

9	וַיִּצָּא	מֹשֶׁה	אֶת-	כָּל-	הַמִּטּוֹת	מִלְפָּנָי	יְהוָה	אֵל-	כָּל-	בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
	اور-نکالا	موسیٰ نے	کو	تمام	چھڑیوں	سامنے-سے	یہوواہ کے	پاس	تمام	بیتوں کے
	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3478</a>

וַיִּרְאוּ וַיִּקְחוּ: אִישׁ מִטָּהוּ:  
 اور-دیکھا اور-لیا اور-آدمی نے اپنی-چھڑی س  
[H7200](#) [H3947](#) [H0376](#) [H4294](#)

لی۔ لے واپس لائھی اپنی اپنی نے ایک ہر بھر کیا۔ معائنہ کا اُن نے اُنہوں اور آیا، لے پاس کے اسرائیلیوں کر لا باہر سے سامنے کے رب لائھیاں تمام موسیٰ

10	וַיֵּאמֶר	יְהוָה	אֵל-	מֹשֶׁה	הַשֵּׁב	אֶת-	מֹשֶׁה	הָעֵדוּת	לְמִשְׁמֶרֶת
	اور-کہا	یہوواہ نے	سے	موسیٰ	واپس-رکھ	کو	چھڑی	شہادت کے	حفاظت کے لیے
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H5715</a>	<a href="#">H4931</a>

לְאֹת לְבָנָי: וַיִּקְחוּ וַיִּקְחוּ: אִישׁ מִטָּהוּ:  
 نشانی کے لیے بیتوں کے لیے بغاوت کے اور-ختم کر ان کی-بڑبڑاٹ اپنے-اوپر سے اور-نہ میں  
[H0226](#) [H4805](#) [H3615](#) [H8519](#) [H3808](#) [H4191](#)

ہو ہلاک ورنہ کریں، بند بڑبڑانا اپنا وہ کہ گی دلائے یاد کو اسرائیلیوں باغی یہ دے۔ رکھ سامنے کے صندوق کے عہد لائھی کی بارون کہا، سے موسیٰ نے رب  
 گے۔ جائیں

11	וַיַּעַשׂ	מֹשֶׁה	כַּאֲשֶׁר	צִוָּה	יְהוָה	אֶתוֹ	כִּן	עָשָׂה:	ס
	اور-کیا	موسیٰ نے	جیسا	حکم-دیا	یہوواہ نے	اُسے	ویسے	کیا	س
	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>					

کیا۔ ہی ایسا نے موسیٰ

12	וַיֹּאמְרוּ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	אֶל-	מֹשֶׁה	לֵאמֹר	הֲנֶ	נִרְעֵנוּ	אָכַדְנוּ:
	اور-کہا	بیٹوں-نے	اسرائیل	سے	موسیٰ	کہتے-ہوئے	دیکھو	ہم-مر-گئے	ہم-سب
	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H2005</a>	<a href="#">H1478</a>	<a href="#">H3605</a>

گے۔ جائیں ہو ہلاک سب ہم گے، جائیں ہو ہلاک ہم ہائے، گے۔ جائیں مر ہم ہائے، کہا، سے موسیٰ نے اسرائیلیوں لیکن

13	כֹּל	הַקָּרֵב	הַקָּרֵב	אֶל-	מִשְׁכַּן	יְהוָה	יָמוּת	הָאֵם	תָּמְנוּ	לָנוּעַ:
	ہر	نزدیک-آنے-والا	نزدیک-آنے-والا	پاس	مسکن	یہوواہ-کے	مرے گا	کیا	ہم-ختم-ہو-گئے	مرنے-سے
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7131</a>	<a href="#">H7131</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4191</a>		<a href="#">H8552</a>	<a href="#">H1478</a>

س

گے؟ جائیں ہو ہلاک ہی سب ہم کہا گا۔ جائے مر وہ آئے قریب کے مقدس کے رب بھی جو